

## سجدہ تلاوت کا طریقہ

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کسی پر کئی سجود تلاوت واجب ہوں کیا ہر سجدہ کے بعد کھڑا ہونا اس پر ضروری ہے یا بیٹھے بیٹھے تمام سجدے کر سکتا ہے؟ اور سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

سائل: حسنین شفیق فرام مانچسٹر۔ انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

جی ہاں بیٹھے بیٹھے تمام سجود کر سکتا ہے کیونکہ کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں کر لے تو اچھا ہے نہ کرے تو گناہ نہیں مگر سجدے میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت تکبیر یعنی اللَّهُ أَكْبَرُ نہ چھوڑے کہ ایسا کرنا سلف کے خلاف ہے۔

بہار شریعت میں ہے کہ سجدہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللَّهُ أَكْبَرُ کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور کم سے کم تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہے، پھر اللَّهُ أَكْبَرُ کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، پہلے پیچھے دونوں بار اللَّهُ أَكْبَرُ کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب۔ (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

اگر سجدہ سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہو یا اللَّهُ أَكْبَرُ نہ کہے یا سُبْحَانَ اللَّهِ نہ پڑھا تو ہو جائے گا مگر تکبیر چھوڑنا نہ چاہیے کہ سلف کے خلاف ہے۔

[بہار شریعت ج 1 حصہ 4 ص 731]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

The method of the prostration of recitation.

Question:

What do the scholars of the religion and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: many sujud (prostrations) of tilawah (recitation) are wajib (obligatory) upon a person. Is it necessary for him to stand up after every prostration or can he perform them one after the other whilst sitting? What is the correct method of performing the prostration of recitation?

Questioner: Hasnain Shafiq, Manchester, UK.

Answer:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

Yes, he may perform the prostrations one after the other whilst sitting. Qiyam (standing) before and after prostration is mustahabb (commendable), doing it is good and leaving it out is not a sin. Takbir **اللَّهُ أَكْبَرُ** while going into and getting up from prostration is not to be left out as doing so would be against the way of the Salaf (pious predecessors).

It is mentioned in Bahar-e Shari'at: "The prescribed method of the prostration of recitation is as follows: go into prostration from standing whilst saying **اللَّهُ أَكْبَرُ**. Recite **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** at least three times during the prostration. Then stand up whilst saying **اللَّهُ أَكْبَرُ**. Reciting **اللَّهُ أَكْبَرُ** whilst going into and standing up from prostration is sunnah. Qiyam before and after prostration is mustahabb. (Alamgiri, Durr-e Mukhtar, etc.) If one does not stand before and after the prostration, or does not say **اللَّهُ أَكْبَرُ**, or does not recite **سُبْحَانَ اللَّهِ**, then the prostration is valid. However, the Takbir should not be left out as doing so would be against the way of the Salaf (pious predecessors)." (Bahar-e Shari'at, vol. 1, part 4, pg. 731)

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadiri.